

آغا خان یونیورسٹی، جنوبی ایشیاء اور مشرقی افریقہ کی پہلی یونیورسٹی بن گئی ہے جسے ایڈوانس ہائیر ایجوکیشن (ایچ ای) نے تسلیم کر لیا ہے۔ ایڈوانس ایچ ای وہ عالمی ادارہ ہے جو ہائیر ایجوکیشن میں درس و تدریس میں مہارت کو فروغ دینے کے لئے کوشاں ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے صدر فیروز رسول نے کراچی میں اسکالرشپ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوانس ایچ ای کے ساتھ یونیورسٹی کی تین سالہ ری ایگریڈیشن کا اعلان کیا۔

برطانوی ادارہ ایڈوانس ایچ ای دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ساتھ یو کے پی ایس ایف کے مساوی اعلیٰ تعلیمی معیار کے لئے کام کرتا ہے۔ درس و تدریس کے موثر طریقوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے صدر فیروز رسول نے اس بات پر زور دیا کہ کلاس روم میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لئے طلباء کو شامل گفتگو کیا جائے۔ اس سے طالب علموں کو اپنے سیکھنے کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔

کینیڈا کی ویسٹرن یونیورسٹی کے سینئر فار ریسرچ آن ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان ہائیر ایجوکیشن کی ڈائریکٹر ڈیبرا ڈاسن نے کلیدی خطاب کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ جامعات میں ایسا تدریسی کلچر پیدا کیا جائے جو معیاری تدریس کو اہمیت دے کیونکہ اس سے نہ صرف اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ ایسا ماحول بھی بنے گا جس سے طلباء کو کامیابی ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر اداروں کے ٹیچنگ کلچر سے طلباء میں بہتر نتائج دیکھنے میں آئے ہیں اور ان کے اندر استقامت، سیکھنے کا عمل اور مشغولیت سامنے آئی ہے۔

اے کے یو کے نیٹ ورک آف کوالٹی، ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی ایسوسی ایٹ وائس پرووائسٹ اور ہائیر ایجوکیشن اکیڈمی کی پرنسپل فیلو تاشمین خمیس نے بتایا کہ ایسے لوگوں یا اداروں کو تلاش کرنے میں کس طرح وقت لگتا ہے جو اس سلسلے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ممالک جہاں اساتذہ کے لیے کم معاونت ہو وہاں پر تدریسی معیار کو بڑھانے کے لئے ایک نیٹ ورک کا قیام ایک طویل سفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوانس ایچ ای کے ساتھ ہماری شراکت نے اے کے یو فیکلٹی کو بین الاقوامی سطح کی اعلیٰ تعلیم کی تدریسی قابلیت تک رسائی دی ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایچ ای اے فیلوشپس کو تدریسی اصلاحات کی جانب ایک مثبت قدم اساتذہ کے لیے تعلیمی قابلیت کا ایک بہترین موقع سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں تمام جامعات ایڈوانس ایچ ای کی رکن ہیں اور ساتھ ہی دنیا کے 15 ممالک بھی شراکت دار ہیں، جس سے ہمیں عملی طور پر ایک بڑی جماعت کا حصہ بننے کا ایک بے مثال موقع ملتا ہے۔

ہائیر ایجوکیشن میں تدریسی طریقوں کو واضح کرنے اور سیکھنے کے موثر عمل سے متعلق دو روزہ ایس او ٹی ایل کانفرنس میں مجموعی طور پر اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مثبت تبدیلی لانے کے لئے طلباء کے سیکھنے کے تجربات کو بہتر بنانے کی کوششوں پر توجہ دی گئی۔